

حکومت بیماری کی روک تھام اور کنٹرول آرڈیننس کے تحت متعلقہ ضابطوں کے خلاف جرموں کے لیے جرمانے میں اضافہ کرے گی

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

حکومت نے آج (4 دسمبر) اعلان کیا ہے کہ وہ بیماری کی روک تھام اور کنٹرول آرڈیننس (کیپ 599) کے تحت قانون سازی میں ترمیم کی اشاعت کر دے گی ، جس سے متعلقہ ضابطوں کے تحت شرائط توڑنے کے لیے جرمانے میں اضافہ ہوگا تاکہ ضروری ممانعت کو مؤثر کیا جاسکے۔ متعلقہ قانون ساز ترامیم 11 دسمبر 2020 سے لاگو ہوں گی۔

فوڈ اینڈ ہیلتھ بیورو کے ترجمان نے کہا ہے ، "انسداد وباء کام کے لیے ہجوم سے اجتناب کرنے ، معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھنے اور ذاتی حفظان صحت کو برقرار رکھنے سمیت مختلف انسداد وباء سے متعلق اقدامات پر سختی سے عمل کر کے تمام شہریوں کے تعاون اور ذاتی نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ حکومت نے لوگوں کی روانی اور معاشرتی رابطے کو کم کرنے کے لیے پچھلے کچھ مہینوں میں بیماری کی روک تھام اور کنٹرول آرڈیننس کے تحت متعدد ضوابط متعارف کروائے ہیں تاکہ معاشرے میں انفیکشن کے پھیلاؤ پر قابو پایا جاسکے۔ وباء میں اضافے کا سامنا کرتے ہوئے ، انفیکشن کو کنٹرول کرنے لے مختلف اقدامات پر سختی کرنے کے علاوہ ، لازمی ہے کہ اہم ممانعت کردہ کاموں کو مؤثر بنانے اور متعلقہ شرائط پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ جرمانے میں اضافہ کیا جائے۔"

متعلقہ ضوابط کے تحت جو نئے جرمانوں کی ترمیم کی گئی ہے ، مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) بیماری کی روک تھام اور کنٹرول (گروپ اجتماع پر پابندی) ضابطہ (Cap. 599G) کے تحت، کوئی بھی شخص جو ممنوعہ گروپ اجتماع میں حصہ لیتا ہے وہ جرم کرتا ہے۔ جرم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی حد \$2,000 سے بڑھا کر \$5000 کر دی گئی ہے۔
- (2) بیماری کی روک تھام اور کنٹرول (ماسک پہننا) ضابطہ (Cap.599I) کے تحت، کوئی بھی شخص جو پبلک ٹرانسپورٹ پر سوار ہوتے ہوئے یا اس پر سواری کے دوران ، ایم ٹی آر کے معاوضہ والے علاقے میں داخل ہوتے ہوئے یا موجودگی کے دوران ، یا کسی مخصوص عوامی جگہ (اب تمام عوامی جگہوں کا احاطہ کرتی ہے ، کنٹری پارکس آرڈیننس (کیپ 208) کے سیکشن 2 میں درج کردہ خصوصی علاقوں اور کنٹری پارکس میں بیرونی عوامی مقامات کو شامل کرتا ہے) میں داخل ہوتے ہوئے یا موجودگی کے دوران ، ماسک پہننے میں ناکام ہو جاتا ہے جرم کرتا ہے۔ جرم کے لیے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے مقررہ جرمانہ \$2000 سے \$ 5000 تک بڑھایا گیا ہے ، اور
- (3) بیماری کی روک تھام اور کنٹرول (بعض افراد کے لیے لازمی جانچ) ضابطہ (Cap. 599J) کے تحت، جو بھی شخص لازمی جانچ کی ہدایت یا لازمی جانچ کے نوٹس کی ضرورت کی تعمیل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے وہ جرم کرتا ہے۔ جرم کے لیے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے مقررہ جرمانہ \$2000 سے بڑھا کر \$ 5000 تک کر دیا گیا ہے۔

مقررہ جرمانے میں اضافے کے ساتھ ساتھ ، جرم ثابت ہونے پر Cap. 599I اور Cap. 599J کے تحت متعلقہ جرائم کی سزا پر زیادہ سے زیادہ جرمانہ میں اضافہ کیا جائے گا۔ تفصیلات منسلک ہیں۔

ترجمان نے زور دے کر کہا کہ حکومت معائنہ اور قانون نافذ کرے گی اور مجرموں کے خلاف سخت نفاذ کی کارروائی کرے گی۔ اگر تعمیل اطمینان بخش نہ ہوئی تو ، حکومت جرمانے میں مزید اضافے کے امکان کو پس پشت نہیں ڈالے گی۔

ترجمان نے کہا ، "کہ وباء کے انسداد کے کام کے اس نازک موڑ پر ، ہمیں معاشرے کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھیں اور ذاتی حفظان صحت کو برقرار رکھیں ، تاکہ اپنے آپ ، اپنے اہل خانہ اور عوام کو بڑے پیمانے پر ، خاص طور پر زیادہ خطرے کا سامنا کرنے والے اور پسماندہ گروہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے ، حکومت عوام سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو گھر پر رہیں اور تمام غیر ضروری معاشرتی سرگرمیاں بند کر دیں۔ ہمیں اعتماد ہے کہ ہم سب کی یکجا اور ٹھوس کوششوں کے ساتھ اس وبائی لہر کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس نظریہ کے ساتھ کہ عمومی اقتصادی اور معاشرتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر لیں۔"

اختتام / جمعہ ، 4 دسمبر ، 2020

HKT 19:48 پر جاری کیا گیا